



احباب جماعت کے لئے ضروری ہدایات

Coronavirus Infoblatt Nr. 2

مساجد اور سینٹرز میں نمازوں کی آدائیگی کے حوالہ سے اہم ہدایات

ممبران جماعت جن کو دل، پھیپھڑوں، جگر، گردوں، آنتوں اور کینسر وغیرہ کی بیماریاں ہیں، یا پھر سگریٹ پینے والے ہیں، وہ مسجد میں آنے سے قطعاً گریز کریں۔



نماز پہ اپنا ذاتی جائے نماز ساتھ لائیں۔



اگر آپ کی عمر 70 سال سے زائد ہے، تو مسجد میں آنے سے گریز کریں۔



گھر سے وضو کر کے آئیں۔



لجنہ اور بچے مسجد میں نہ آئیں۔



نمازوں کے وقت مساجد میں ضرورت سے زیادہ وقت نہ گزاریں۔ فی الحال نماز کے بعد کوئی درس نہیں دیا جائے گا۔ قرآن کلاسز آن لائن کروائی جائیں گی۔



مسجد کی باقاعدگی سے ونٹیلیشن کیا کریں۔ خصوصاً نماز سے پہلے اور نماز کے بعد۔ کم از کم 10 منٹ کیلئے۔



مقامی اداروں کی طرف سے جو ہدایات جاری کی جا رہی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ مقامی سطح پر جو مجمع کی تعداد کی اجازت دی گئی ہے، اس پر نظر رکھیں۔ نوٹ: نماز باجماعت کے علاوہ، سردست کسی قسم کے جماعتی اور تنظیمی پروگرامز منعقد نہیں کیے جائیں گے۔



اس سے آپ ایک بہتر فضاء پیدا کر دیں گے۔ ایسا کرنے سے انفیکشن کا خطرہ کم ہو جائے گا۔